

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - I (کلاس گیارہویں)

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION PAPER-I
(NEW SCHEME)صحت و تعلیم جسمانی پرچہ - پہلا
(نئے اسکیم)

TIME ALLOWED: 2.40 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.40 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 68

کل نمبر = 68

نوٹ: - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2- کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) What is the importance of Physical Education in colleges? Write in short. (i) کالجوں میں تعلیم جسمانی کی کیا اہمیت ہے؟ مختصر تحریر کریں۔
- (ii) Does Physical Education save from diseases? (ii) کیا جسمانی تعلیم بیماریوں سے بچاتی ہے؟
- (iii) How does Physical Education create the leadership qualities in the young ones? (iii) تعلیم جسمانی نوجوانوں میں کس طرح قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرتی ہے؟
- (iv) Write down any two definitions of Physical Education. (iv) تعلیم جسمانی کی کوئی سی دو تعریفیں تحریر کریں۔
- (v) How does Educational Gymnastic promote natural abilities? (v) تعلیمی جمناسٹک فطری صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کرتی ہے؟
- (vi) Write down four exercises of balance. (vi) توازن کی چار ورزشیں تحریر کریں۔
- (vii) What is meant by Gymnastic with tools? (vii) آلات کے ساتھ جمناسٹک سے کیا مراد ہے؟
- (viii) Write down only the names of the different types of Gymnastic. (viii) جمناسٹک کی مختلف اقسام کے صرف نام تحریر کریں۔
- (ix) Write down the names of only five Recreational activities. (ix) تفریحی سرگرمیوں میں سے صرف پانچ سرگرمیوں کے نام لکھیے۔
- (x) Write down the names of some Social Activities. (x) چند سماجی سرگرمیوں کے نام لکھیے۔
- (xi) Write down two characteristics of Recreation. (xi) تفریح کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔
- (xii) How can Recreation be made useful and effective? (xii) تفریح کو ہاں مقصد اور موثر کیسے بنایا جاسکتا ہے؟

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3- کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write down the measurement of Net and Post in Volleyball. (i) والی بال میں نیٹ اور پوسٹ کی پیمائش لکھیں۔
- (ii) Write a note on Rotation in Volleyball. (ii) والی بال میں روٹیشن پر نوٹ لکھیں۔
- (iii) Define Spike Service in Volleyball. (iii) والی بال میں سپائیک سروس کی تعریف لکھیں۔
- (iv) Write down the measurement of Volleyball Court. (iv) والی بال میں کورٹ کی پیمائش لکھیں۔
- (v) Define Recovery in Shot put. (v) سٹاپ پٹ (گولہ پھینکنے) میں ریکوری کی تعریف کریں۔
- (vi) Describe the structure of Stop board in Shot put. (vi) گولہ میں سٹاپ بورڈ کی ساخت بیان کریں۔
- (vii) Define 4 x 100 m Relay race. (vii) 100 x 4 میٹر ریلے ریس کی تعریف کریں۔
- (viii) Describe two rules of competition in 4 x 100 m Relay race. (viii) 100 x 4 میٹر ریلے ریس میں مقابلے کے دو ضابطے تحریر کریں۔

(ورق اٹھائیے)

(FOR BOYS ONLY)

- (ix) Write down the measurement of Penalty Area in Football.
- (x) Write down two fouls in Football.
- (xi) Describe the Runway in Triple Jump.
- (xii) Describe two rules of competition in Triple Jump.

(FOR GIRLS ONLY)

- (ix) Describe the landing sector of Discus.
- (x) Describe release action of Discus.
- (xi) Write the measurement of Netball Court.
- (xii) Define Netball.

(صرف طلباء کے لئے)

- (ix) فٹ بال میں پنلٹی ایریا کی پیمائش لکھیں۔
- (x) فٹ بال میں دو فاولز تحریر کریں۔
- (xi) سرجسٹ میں دوڑنے کا راستہ بیان کریں۔
- (xii) سرجسٹ میں مقابلے کے دو ضابطے تحریر کریں۔

(صرف طالبات کے لئے)

- (ix) ڈسکس گرنے کا علاقہ بیان کریں۔
- (x) ڈسکس چھوڑنے کا عمل بیان کریں۔
- (xi) نیٹ بال کورٹ کی پیمائش لکھیں۔
- (xii) نیٹ بال کی تعریف لکھیں۔

4. Attempt any six parts.

$12 = 2 \times 6$

- (i) Write down two important objectives of Health Education.
- (ii) What is meant by Mental Health?
- (iii) Write down the names of four fundamental parts of Cell.
- (iv) Explain briefly Cell Wall.
- (v) Write a short note on Air Vacuoles.
- (vi) What is meant by Muscular System?
- (vii) Write down four causes of Flat Feet.
- (viii) Define First Aid.
- (ix) Write down the causes of spreading of Small Pox.

سوال نمبر 4- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) علمِ الصحت کے دو اہم ترین مقاصد تحریر کریں۔
- (ii) ذہنی صحت سے کیا مراد ہے؟
- (iii) خلیہ کے چار بنیادی حصوں کے نام تحریر کریں۔
- (iv) دیوار خلیہ کی مختصر وضاحت کریں۔
- (v) ہوا کے پلے پر مختصر نوٹ لکھیں۔
- (vi) نظامِ عضلات سے کیا مراد ہے؟
- (vii) چپے پاؤں کی چار وجوہات لکھیں۔
- (viii) ابتدائی طبی امداد کی تعریف لکھیں۔
- (ix) چیچک کا مرض پھیلنے کے اسباب تحریر کریں۔

SECTION-II**حصہ دوم****NOTE: - Attempt any three questions. 24 = 8 x 3****نوٹ - کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔**

5. Describe the objectives of Recreation in detail.
تفریح کے مقاصد تفصیل سے بیان کریں۔
6. Draw a sketch of Football ground with dimensions and also describe the position of players.
فٹ بال گراؤنڈ کا خاکہ مع پیمائش بنا لیں اور کھلاڑیوں کی پوزیشن بھی واضح کریں۔ (برائے طلباء)
6. Draw a sketch of Netball ground with dimensions and also describe the position of players.
نیٹ بال گراؤنڈ کا خاکہ مع پیمائش بنا لیں اور کھلاڑیوں کی پوزیشن بھی واضح کریں۔ (برائے طالبات)
7. Draw a sketch of Jumping pit and Runway in Triple Jump.
ٹریپل جمپ کے اکھاڑے اور رن وے کی پیمائش تحریر کریں۔ نیز ٹریپل جمپ کے فاولز تحریر کریں۔ (برائے طلباء)
7. Write down the measurements of Jumping pit and Runway in Triple Jump.
Also describe the fouls in triple jump.
ڈسکس تھرو کے دائرہ اور سیکٹور کی پیمائش لکھیں۔ نیز ڈسکس تھرو کے فاولز بھی لکھیں۔ (برائے طالبات)
8. Write down the measurement of circle and sector of Discus Throw and also write fouls of Discus Throw.
انسانی جسم میں خون کس طرح دورہ کرتا ہے؟ تفصیل سے وضاحت کریں۔
9. Write in detail the causes of spread of the Infectious diseases.
متعدی امراض کے پھیلنے کے اسباب تفصیل سے تحریر کیجیے۔

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION PAPER-I (NEW SCHEME)

صحت و تعلیم جسمانی پرچہ - پہلا (نئے اسکیم)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 17

کل نمبر = 17

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق مختلف دائروں کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز عمل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) According to _____, "Physical education is the phase of education that deals with big muscle activities and their related response."
 (A) J.B. Nash جے بی۔ نیش (B) Aristotle ارسطو (C) John Dewey جان ڈیوی (D) Charles A. Bucher چارلس اے۔ بچر
- (2) An objective of physical education is:-
 (A) To create worries پریشانیاں پیدا کرنا (B) Physical development جسمانی نشوونما (C) To create diseases بیماریاں پیدا کرنا (D) To create problems مسائل پیدا کرنا
- (3) Gymnastic creates in our body:-
 (A) Activeness چستی (B) Laziness سستی (C) Illness بیماری (D) Weakness کمزوری
- (4) Recreational activities are adopted in/at:-
 (A) Morning time صبح کے وقت (B) Evening time شام کے وقت (C) Leisure time فرصت کے اوقات میں (D) Any time کسی بھی وقت
- (5) The width of Volleyball Net is:-
 (A) 1.50 m میٹر (B) 01 m میٹر (C) 02 m میٹر (D) 03 m میٹر
- (6) The angle of sector of putting the shot is:-
 (A) 35.92° (B) 32.92° (C) 31.94° (D) 34.92°
- (7) Changing zone in 4 x 100 m relay race is:-
 (A) 25 m (B) 20 m (C) 15 m (D) 10 m
- (8) Total _____ systems are there in the human body.
 (A) Eleven گیارہ (B) Nine نو (C) Eight آٹھ (D) Five پانچ
- (9) The blood vessels that carries pure blood are called:-
 (A) Lungs ریوے (B) Veins وریں (C) Capillaries مردق شعریہ (D) Arteries شریانیں
- (10) The quantity of Oxygen in inspiration is:-
 (A) 23 % (B) 19 % (C) 21 % (D) 25 %
- (11) In _____ postural defect the shape of the backbone becomes like the alphabet "C".
 (A) Flat foot پتیلے پاؤں (B) Kyphosis گول کمر (C) Scoliosis ٹاہورا کندھے (D) Lordosis ٹھلی کمر
- (12) A sudden turn of a joint is called:-
 (A) Muscle cramp عضلاتی تپاؤ (B) Pulled muscles عضلاتی سہچاؤ (C) Muscle soreness مچھے کا دکھنا (D) Sprain موج
- (13) Bones in human foot are:- (A) 26 (B) 22 (C) 20 (D) 16
 (13) انسانی پاؤں میں ہڈیاں ہوتی ہیں۔
- (14) The causes of infectious diseases are generally divided into _____ parts.
 (A) Three تین (B) Two دو (C) Four چار (D) Six چھ
- (15) Baton is used in _____.
 (A) Walking پیڈل چلنے (B) Relay race ڈاک دوڑ (C) Cycling سائیکلنگ (D) Marathon میراثن
- (16) Maximum weight of ball in Football is:-
 (A) 450 gm گرام (B) 400 gm گرام (C) 500 gm گرام (D) 600 gm گرام
- (17) The width of jumping pit in Hop step and jump is:-
 (A) 2.75 m میٹر (B) 2.85 m میٹر (C) 3.75 m میٹر (D) 4.75 m میٹر
- (16) نیٹ بال کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔
 (A) 30.50 m میٹر (B) 29.50 m میٹر (C) 25 m میٹر (D) 40 m میٹر
- (17) The weight of discus for women is:-
 (A) 1 kg کلو گرام (B) 1.50 kg کلو گرام (C) 2 kg کلو گرام (D) 3 kg کلو گرام

(FOR BOYS ONLY)

(صرف طلباء کے لئے)

(FOR GIRLS ONLY)

(صرف طالبات کے لئے)

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - I (کلاس گیارہویں)

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION PAPER-I
(OLD SCHEME)صحت و تعلیم جسانی پرچہ - پہلا
(اولڈ سکیم)

TIME ALLOWED: 3.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 3.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 83

کل نمبر = 83

نوٹ: - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2- کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write the definition of Physical Education by John Dewey.
- How Physical Education develop the Physical Ability?
- What is meant by Recreation?
- Which building was introduced by the Greeks for exercise?
- How does Educational Gymnastic promote natural abilities?
- What is meant by warming-up activities?
- Write down the opinion of Thomas G. Desmond for Leisure.
- Write down two benefits of Recreation.
- Write down four exercises of Balance.
- Write down the names of some social activities in recreation.
- What benefits are achieved in taking part in Physical Activities?
- How can recreation activities be made useful and effective?

- جان ڈیوی کی تعلیم جسانی کی تعریف تحریر کیجیے۔
- جسانی تعلیم سے جسانی اہلیت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟
- تفریح سے کیا مراد ہے؟
- یونانیوں نے ورزش کے لیے کون سی عمارت متعارف کروائی؟
- تعلیمی جمناسٹک فطری صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کرتی ہے؟
- جسم کو گرم کرنے والی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟
- تھامس جی ڈسمنڈ کی فراغت کے بارے میں رائے تحریر کیجیے۔
- تفریح کے دو فوائد تحریر کیجیے۔
- توازن کی چار ورزشیں تحریر کیجیے۔
- تفریح کی چند سماجی سرگرمیوں کے نام لکھیے۔
- جسانی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟
- تفریح کو ہا مقصد اور موثر کیسے بنایا جاسکتا ہے؟

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3- کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write down two duties of referee in Volleyball.
- Write down two faults of service in Volleyball.
- Write a short note on Rotation in Volleyball.
- Write down the length and width of Volleyball Court.
- Write down two fouls of putting the shot.
- Write down the complete dimensions of stop board for Shot put.
- What is changing zone in 4 x 100 m relay race?
- Write down two rules of 4 x 100 m relay race.

- والی بال میں ریفری کے دو فرائض تحریر کریں۔
- والی بال میں سروس کی دو غلطیاں لکھیں۔
- والی بال میں روٹیشن پر مختصر نوٹ لکھیں۔
- والی بال کورٹ کی لمبائی اور چوڑائی لکھیں۔
- گول پھینکنے کے دو فائلز تحریر کیجیے۔
- گول پھینکنے کے لیے دائرہ پر لگے سٹاپ بورڈ کی مکمل پیمائش لکھیں۔
- 100 x 4 میٹر ڈاک دوڑ میں تبدیلی کا علاقہ کیا ہے؟
- 100 x 4 میٹر دوڑ کے دو ضابطے تحریر کیجیے۔

(FOR BOYS ONLY)

(صرف طلباء کے لئے)

- Write a note on goal area in football.
- What is meant by "Kick Off" in football?
- Write down two fouls of Triple Jump.
- What is "Runway" in triple jump?

- فٹ بال میں گول ایریا پر نوٹ لکھیں۔
- فٹ بال میں کک آف سے کیا مراد ہے؟
- سرجھٹ کے دو فائلز تحریر کریں۔
- سرجھٹ میں "رن وے" کیا ہے؟

(درج اٹھائے)

(FOR GIRLS ONLY)

- (ix) How many parts are there in Netball Court?
 (x) Write two fouls of Netball.
 (xi) Write down two rules of Discus Throw.
 (xii) Write the weight of Discus for men and women.

(صرف طالبات کے لئے)

- (ix) نیٹ بال کا کورٹ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟
 (x) نیٹ بال کے دو فاولز تحریر کیجیے۔
 (xi) تقابلی پھینکنے کے دو ضابطے تحریر کریں۔
 (xii) تقابلی کاوزن (عورتوں اور مردوں کے لیے) تحریر کریں۔

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

- (i) Write down four aims of Health Education.
 (ii) Write down the names of parts which work in respiratory system.
 (iii) Write down two causes of Scoliosis.
 (iv) What is meant by Veins?
 (v) What is meant by Athletic injuries?
 (vi) What is meant by Infectious diseases?
 (vii) Write down four symptoms of bone fracture.
 (viii) Write down the causes of Typhoid fever.
 (ix) Write a short note on Skeleton System.

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) علم صحت کے چار مقاصد تحریر کریں۔
 (ii) نظام تنفس میں حصہ لینے والے اعضا کے نام لکھیں۔
 (iii) نابہوار کندھوں کی دو وجوہات لکھیں۔
 (iv) وریدوں سے کیا مراد ہے؟
 (v) کسرتی ضربات سے کیا مراد ہے؟
 (vi) متعدی امراض سے کیا مراد ہے؟
 (vii) ہڈی ٹوٹنے کی چار علامات تحریر کیجیے۔
 (viii) تپ مخرقہ پھیلنے کے اسباب تحریر کیجیے۔
 (ix) نظام استخوان پر مختصر نوٹ لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

24 = 8 x 3

5. Write down the importance of Physical Education in detail.
 6. Draw a sketch of Football Court and write its dimensions.
 OR
 Draw a sketch of Netball Court and write its dimensions.
 7. Write down in detail the organs in circulatory system.
 8. Write down the note on the following in detail:-
 Veins (i) وریدیں (ii) Arteries (i) شریانیں
 9. What is meant by Muscle Sprain? Write down its first aid.

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

- 5۔ تعلیم جسمانی کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں۔
 6۔ فٹ بال کورٹ کا خاکہ بنا کر اس کی پیمائش درج کیجیے۔
 نیٹ بال کورٹ کا خاکہ بنا کر اس کی پیمائش درج کیجیے۔
 7۔ نظام دوران خون میں حصہ لینے والے اعضا کے بارے میں تفصیلاً تحریر کریں۔
 8۔ مندرجہ ذیل پر تفصیل سے نوٹ لکھیے۔
 9۔ عضلاتی کھپاؤ سے کیا مراد ہے؟ اس کی طبی امداد تحریر کیجیے۔

SECTION-III حصہ سوم

10. NOTE: - Attempt any three parts.

15 = 5 x 3

- (A) Write down two exercises of Legs.
 (B) Write down the method of Backward Roll.
 (C) Write the method of Putting the Shot.
 (D) Write the method of falling in jumping pit in triple jump.

10۔ (پر یکمیکل حصہ) کوئی سے تین اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (A) ٹانگوں کی دو ورزشیں تحریر کریں۔
 (B) اپنی قلابازی لگانے کا طریقہ لکھیے۔
 (C) گول پھینکنے کا طریقہ لکھیے۔
 (D) سہ چست میں اگھاڑے میں گرنے کا طریقہ لکھیے۔

OR یا

- Write down the method of throwing discus.
 (E) Write down the method of Blocking in Volleyball.

- تقابلی پھینکنے کا طریقہ لکھیے۔
 (E) دلی بال میں بلاکنگ کا طریقہ لکھیے۔

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو بھرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) Physical Education makes our body:-
(A) Weak کمزور (B) Fat موٹا (C) Strong مضبوط (D) Sick بیمار
- (2) _____ becomes the source of immunity.
(A) Walk سیر (B) Dialogues مذاکرات (C) Film watching فلم بینی (D) Game کھیل
- (3) The minimum weight of ball in Volleyball game is:-
(A) 290 gram (B) 270 gram (C) 250 gram (D) 260 gram
- (4) _____ will pick a fallen baton in 4 x 100 m relay race.
(A) Team-mate ساتھی کھلاڑی (B) Substitute متبادل (C) Coach کوچ (D) Let fall mate گرانے والا
- (5) Time required for putting the shot is:-
(A) 60 seconds (B) 40 seconds (C) 50 seconds (D) 30 seconds
- (6) There are total _____ systems in a human body.
(A) Seven سات (B) Nine نو (C) Eleven گیارہ (D) Thirteen تیرہ
- (7) Pure blood is found in:-
(A) Arteries شریانوں میں (B) Veins وریدوں میں (C) Pulmonary arteries ریویں پھردوں کی شریانوں میں (D) Capillaries عروق شریانیہ میں
- (8) _____ percent of Oxygen goes in the body through breath.
(A) 25 (B) 15 (C) 21 (D) 30
- (9) The defect of Kyphosis develops:-
(A) By taking exercise ورزش کرنے سے (B) During walk سر کے دوران (C) By bending forward during work آگے جھک کر کام کرنے سے (D) By taking forward roll سیدھی قدام بازی لگانے سے
- (10) A patient should be kept during first aid at:-
(A) Narrow space تنگ جگہ پر (B) Open space کھلی جگہ پر (C) Dark space تاریک جگہ پر (D) Crowded space پرتھوم جگہ پر
- (11) Bones in human foot are:- (A) 10 (B) 20 (C) 25 (D) 26
- (12) To chew more food a sticky juice _____ is included in it.
(A) Saliva سلیوا (B) Gastric گیسٹریک (C) Maltose مالٹوز (D) Amylase ایملیز
- (13) The defect of flat foot occurs by:-
(A) Our eating پختہ خوردی سے (B) Wearing tight shoes تنگ جوتے پہننے سے (C) Exercise ورزش کرنے سے (D) Walking bare footed ننگے پاؤں چلنے سے
- (14) Intestine fever is a symptom of:-
(A) Cholera ہیپنڈی (B) Typhoid تپ مہرہ کی (C) Measles خسرہ کی (D) Malaria لیبریا کی
- (15) Infectious diseases spread through:-
(A) Cold سردی سے (B) Air ہوا سے (C) Medicines ادویات سے (D) Healthy person تندرست فرد سے

(FOR BOYS ONLY)

(صرف طلباء کے لئے)

- (16) The duration of football game is:-
(A) 70 minutes (B) 80 minutes (C) 90 minutes (D) 100 minutes
- (17) The width of jumping pit in triple jump is:-
(A) 2 m (B) 2.75 m (C) 3.15 m (D) 3.50 m

(FOR GIRLS ONLY)

(صرف طالبات کے لئے)

- (16) The width of Netball Court is:-
(A) 15.00 m (B) 18.00 m (C) 15.25 m (D) 20 m
- (17) The weight of discus for women is:-
(A) 1.50 kg (B) 2 kg (C) 1 kg (D) 2.50 kg

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN.
OBJECTIVE KEY FOR INTERMEDEAT ANNUAL/SUPPLY EXAMINATION, 2018

Name of Subject: Health & Phy. Edu.
 Group: تہ پہلے

Session: _____
 Group: اولد اسکول

| Q. Nos | Paper Code 2421 | Paper Code 2423 | Paper Code 2425 | Paper Code 2427 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | A | A | A | C |
| 2 | B | C | D | B |
| 3 | A | B | C | D |
| 4 | C | A | C | B |
| 5 | B | B | D | A |
| 6 | D | A | A | D |
| 7 | B | C | C | C |
| 8 | A | B | B | C |
| 9 | D | D | A | D |
| 10 | C | B | B | A |
| 11 | C | A | A | C |
| 12 | D | D | C | B |
| 13 | A | C | B | A |
| 14 | C | C | D | B |
| 15 | B | D | B | A |
| 16 | A | A | A | A |
| 17 | A | A | A | A |
| 18 | A | A | A | A |
| 19 | A | A | A | A |
| 20 | | | | |

For Boys []
 For Girls []

| Q. Nos | Paper Code 6421 | Paper Code 6423 | Paper Code 6425 | Paper Code 6427 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | C | B | A | D |
| 2 | D | D | C | A |
| 3 | D | A | C | C |
| 4 | D | B | B | A |
| 5 | A | B | D | C |
| 6 | C | B | A | C |
| 7 | A | C | B | B |
| 8 | C | D | B | D |
| 9 | C | D | B | A |
| 10 | B | D | C | B |
| 11 | D | A | D | B |
| 12 | A | C | D | B |
| 13 | B | A | D | C |
| 14 | B | C | A | D |
| 15 | B | C | C | D |
| 16 | C | B | C | B |
| 17 | B | C | B | C |
| 18 | C | C | C | C |
| 19 | C | C | C | C |
| 20 | | | | |

For Boys []
 For Girls []